




مجمع جهانی اہل بیت علیہ السلام

# شیعہ اثنا عشری عقائد



# شیعه اثنا عشری عقائد

فرقه امامیه جعفریه

۱۔ عصر حاضر میں شیعہ اثنا عشری فرقہ مسلمانوں کا ایک بڑا فرقہ ہے، جس کی کل تعداد مسلمانوں کے تقریباً ایک چوتھائی ہے۔ اور اس فرقہ کی تاریخی جڑیں صدر اسلام کے اس دن سے شروع ہوتی ہیں جس دن سورہ یٰسہ کی یہ آیت نازل ہوئی تھی: (اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِکَ ہُمْ خَیْرُ الْبَرِیِّیْنَ) بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا وہی بہترین مخلوق ہیں۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا ﷺ نے اپنا ہاتھ علی کے شانہ پر رکھا اس وقت اصحاب بھی وہاں موجود تھے اور آپ نے فرمایا: ”یا علی اَنْتَ وَشِیعَتُکَ ہُمْ خَیْرُ الْبَرِیِّیْنَ“؛ اے علی! آپ اور آپ کے شیعہ بہترین مخلوق ہیں۔ تفسیر طبری (جامع البیان) اسی وجہ سے یہ فرقہ ”جو امام جعفر صادق کی فقہ میں ان کا پیرو ہونے کی بنا پر ان کی طرف منسوب ہے“ شیعہ فرقہ کے نام سے مشہور ہوا۔

۲۔ شیعہ فرقہ کثیر تعداد میں ایران، عراق، پاکستان اور ہندوستان میں زندگی بسر کرتا ہے، اسی طرح اس کی ایک بڑی تعداد خلیجی ممالک، ترکی، سوریا (شام)، لبنان، روس اور اس سے جدا ہونے والے جدید خود مختار ممالک میں موجود ہے، نیز یہ فرقہ یورپی ممالک جیسے انگلینڈ، جرمن، فرانس اور امریکہ، اسی طرح افریقی ممالک اور مشرقی ایشیا میں بھی پھیلا ہوا ہے، ان مقامات پر ان کی اپنی مسجدیں اور علمی، ثقافتی اور سماجی مراکز بھی ہیں۔

۳۔ اس فرقہ کے افراد اگرچہ مختلف ممالک، قوموں اور متعدد رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے ساتھ بڑے پیار و محبت سے رہتے ہیں، اور تمام آسان یا مشکل میدانوں میں سچے دل اور اخلاص کے ساتھ ان کا تعاون کرتے ہیں، اور یہ سب اس فرمان خدا پر عمل کرتے ہوئے انجام دیتے ہیں: (اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ ۲) ”مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔“

<sup>۱</sup> آیت نمبر ۷

<sup>۲</sup> سورہ حجرات، آیت ۱۰

۴۔ پوری تاریخ اسلام میں دین خدا اور ملت اسلامیہ کے دفاع کے سلسلہ میں اس فرقہ کا ایک اہم اور واضح کردار رہا ہے، جیسے اس کی حکومتوں اور ریاستوں نے اسلامی ثقافت اور تمدن کی ہمیشہ خدمت کی ہے، نیز اس فرقہ کے علماء اور دانشوروں نے اسلامی میراث کو غنی بنانے اور بچانے کے سلسلے میں مختلف علمی اور تجربی میدانوں میں جیسے تفسیر، حدیث، عقائد، فقہ، اصول، اخلاق، درایہ، رجال، فلسفہ، موعظہ، حکومت، سماجیات، زبان و ادب، ملکہ طب اور فیزیکس، کیمیا، ریاضیات، نجوم، اور اس کے علاوہ متعدد حیاتی علوم کے بارے میں لاکھوں کتابیں تحریر کر کے اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، بلکہ بہت سے علوم کے موجد دانشور تو اسی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ (دیکھیے: سید حسن صدر کی کتاب تاسیس الشیعة لعلوم الاسلام)

۵۔ شیعہ فرقہ معتقد ہے کہ خدا احد و صمد ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا، اور نہ اس کا کوئی کفو ہے اور نہ ہمسر، اور اس سے جہانیت، مکان، زمان، جہت، تغیر، حرکت، صعود و نزول وغیرہ جیسی صفات جو اس کی صفات کمال و جمال کے شایان شان نہیں ہیں، ان کی نفی کرتا ہے۔ اور شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حکم اور تشریع (شریعت کا قانون بنانا) صرف اسی کا کام ہے، اور ہر طرح کا شرک چاہے وہ خفی ہو یا جلی ایک عظیم ظلم اور ناقابل بخشش گناہ ہے۔

اور شیعوں نے یہ عقائد، عقل محکم (سالم) سے حاصل کئے ہیں، جن کی تائید و تصدیق کتاب خدا اور سنت شریفہ سے بھی ہوتی ہے جو کہ اس کا مصدر ہے۔ اور شیعوں نے اپنے عقائد کے میدان میں ان احادیث پر تکیہ نہیں کیا ہے جن میں اسرائیلیات (جعلی تورات اور انجیل) اور مجوسیت کی گڑھی ہوئی باتیں خلط ملط ہیں، جنہوں نے اللہ کو بشر کے مانند مانا ہے، اور وہ اس کی تشبیہ مخلوق سے دیتے ہیں، یا پھر اس کی طرف ظلم و جور، اور لغو و یہودہ جیسے کاموں کی نسبت دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے بالکل پاک و پاکیزہ ہے یا یہ لوگ خدا کے علی الاطلاق پاک و پاکیزہ اور معصوم انبیاء کی طرف برائیوں اور قبیح باتوں کی نسبت دیتے ہیں۔

۶۔ شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا عادل اور حکیم ہے، اور اس نے عدل و حکمت سے خلق کیا، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان، جادات ہو یا نباتات، زمین ہو یا آسمان، اس نے کوئی شئی عبث خلق نہیں کی ہے، کیونکہ عبث (فضول یا بیکار ہونا) نہ صرف اس کے عدل و حکمت کے مخالف ہے بلکہ اس کی اس الوہیت کے بھی مخالف ہے جس کا لازمہ یہ ہے کہ خداوند متعال کے لئے تمام کمالات کا اثبات کیا جائے، اور اس سے ہر قسم کے نقص کی نفی کی جائے۔

۷۔ شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے عدل و حکمت کے ساتھ ابتدائے خلقت سے ہی اس کی طرف انبیاء و مرسلین کو معصوم بنا کر بھیجا، اور پھر انھیں وسیع علم سے آراستہ کیا جو وحی کے ذریعہ اللہ کی جانب سے انھیں عطا کیا گیا، اور یہ سب کچھ نوع بشر کی ہدایت اور اسے اس کے گمشدہ کمال تک پہنچانے کیلئے تھا تاکہ اس کے ذریعہ اسے ایسی اطاعت کی طرف بھی راہنمائی ہو جائے جو اسے جنتی بنانے کے ساتھ ساتھ پروردگار کی خوشنودی اور اس کی رحمت کا مستحق قرار دے، اور ان انبیاء و مرسلین کے درمیان آدم، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ سب سے مشہور ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، یا جن کے اسماء گرامی اور دیگر حالات احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔

۸۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے، اس کے احکام کو نافذ کرے، اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کے قوانین پر عمل کرے وہ نجات یافتہ اور کامیاب ہے، اور وہی متقی مدح و ثواب ہے، اور جس نے خدا کی نافرمانی کی، وہ متقی مذمت اور ہلاک ہونے اور گھاناٹھاٹھانے والوں میں سے ہے۔ شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ثواب و عقاب ملنے کی جگہ روز قیامت ہے جس دن حساب و کتاب، میزان اور جنت و دوزخ سب کے سامنے ہوں گی، اور یہ سب کچھ قبر اور برزخ کے بعد ہوگا۔ شیعوں کا عقیدہ خاتمیت اور امتیازات

۹۔ شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین کی آخری فرد اور ان سب سے افضل نبی حضرت محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب میں جنھیں خداوند متعال نے ہر خطا اور لغزش سے محفوظ رکھا اور ہر گناہ صغیرہ و کبیرہ سے معصوم قرار دیا چاہے وہ قبل بعثت ہو یا بعد بعثت

چاہے تبلیغ کا مرحلہ ہو یا تبلیغ کے علاوہ کوئی اور کام ہو، اور ان پر قرآن کریم نازل کیا، تاکہ وہ حیات بشری کیلئے ایک دائمی دستور العمل قرار پائے، پس رسول اسلام نے رسالت کی تبلیغ کی اور صداقت و اخلاص کے ساتھ لوگوں تک امانت کو پہنچا دیا۔

۱۰۔ شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ نے حضرت علیؑ کو تمام مسلمانوں کی رہبری کیلئے اپنا خلیفہ اور لوگوں کے لئے امام منصوب کیا، تاکہ علیؑ ان کی سیاسی قیادت اور فکری راہنمائی اور ان کی مشکلوں کو حل کریں، نیز ان کے نفوس کا تزکیہ اور ان کی تربیت کریں، اور یہ سب خدا کے حکم سے مقام غدیر خم میں رسول کی حیات کے آخری حج کے بعد، ان مسلمان حاجیوں کے جم غفیر میں انجام پایا جو آپ کے ساتھ حج کر کے واپس آرہے تھے، جن کی تعداد بعض روایات ایک لاکھ بتاتی ہیں، اور اس مناسبت سے متعدد آیتیں نازل ہوئیں۔

اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے علیؑ کے ہاتھوں پر لوگوں سے بیعت طلب کی، چنانچہ تمام لوگوں نے علیؑ کی بیعت کی اور ان بیعت کرنے والوں میں سب کے آگے ماجرین و انصار کے بزرگ اور مشہور صحابہ تھے، مزید تفصیل کے ۱۔ شیعہ نامیہ اس بات کے پابند ہیں کہ جب پیغمبرؐ کا ذکر ہو تو درود و سلام کے وقت ان کی آل کا بھی ذکر کرتے ہیں، چونکہ اس بات کا حکم پیغمبرؐ نے دیا ہے جیسا کہ صحاح ستہ کی بعض کتب میں اور دوسری کتابوں میں ذکر ہوا ہے۔ لئے دیکھیے: کتاب ”الغدیر“ جس میں علامہ امینی نے مسلمانوں کے تفسیری اور تاریخی منابع و مآخذ سے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔

۱۱۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ چونکہ رسول اکرم ﷺ کے بعد امام کی ذمہ داری وہی ہے جو نبی کی ہوتی ہے جیسے امت کی قیادت و ہدایت، تعلیم و تربیت، احکام کی وضاحت اور ان کی سخت فکری مشکلات کا حل کرنا، نیز سماجی اہم امور کا حل کرنا، لہذا یہ ضروری ہے کہ امام اور خلیفہ ایسا ہو کہ لوگ اس پر بھروسہ اور اعتبار کرتے ہوں، تاکہ وہ امت کو امن و امان کے ساحل تک پہنچا سکے، پس امام تمام صلاحیتوں اور صفات میں نبی جیسا ہونا چاہیے (جیسے عصمت اور وسیع علم) کیونکہ وحی اور نبوت کے علاوہ امام کے فرائض

بھی نبی کی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت محمد بن عبد اللہ پر نبوت ختم ہو گئی، آپ ہی خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، نیز آپ کا دین خاتم الادیان، اور آپ کی شریعت خاتم الشرائع اور آپ کی کتاب خاتم الکتاب ہے، (شیعوں کے پاس اس سلسلہ میں بھی متعدد اور متنوع ضخیم اور فکری و استدلالی کتابیں موجود ہیں)

۱۲۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امت کو سیدھی راہ پر چلانے والے معصوم قائد اور ولی کی ضرورت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ رسول کے بعد امامت اور خلافت کا منصب صرف علیؑ پ رہی نہ رک جائے، بلکہ قیادت کے اس سلسلہ کو طویل مدت تک قائم رہنا ضروری ہے، تاکہ اسلام کی جڑیں مضبوط اور اس کی بنیادیں محفوظ ہو جائیں۔

۱۳۔ شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے اسی سبب اور اسی بلند حکمت کی بنا پر اللہ کے حکم کی بنا پر علیؑ کے بعد گیارہ امام معین فرمائے، لہذا حضرت علیؑ کو ملا کر کل بارہ امام ہیں، جیسا کہ ان کی تعداد کے بارے میں نبی اکرم کی حدیثوں میں اشارہ ہے کہ ان سب کا تعلق قبیلہ قریش سے ہوگا جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مختلف الفاظ کے ساتھ اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، البتہ ان کے اسماء اور خصوصیات کا تذکرہ نہیں ہے۔ ”عن رسول اللہ ان الدین لایزال ماضیاً قائماً عزیزاً فیما کان فیہم اثنا عشر امیراً و خلیفۃ کلم من قریش“ بخاری اور مسلم دونوں نے رسول خدا سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا: بیشک دین اسلام اس وقت تک غالب قائم اور مضبوط رہے گا جب تک اس میں بارہ امیر یا بارہ خلیفہ رہیں گے، یہ سب قریش سے ہوں گے۔ (بعض نسخوں میں بنی ہاشم بھی آیا ہے، اور صحاح ستہ کے علاوہ فضائل و مناقب و شعر و ادب کی کتب میں ان حضرات کے اسماء بھی مذکور ہیں) یہ احادیث اگرچہ ائمہ اثنا عشر (جو کہ علی علیہ السلام اور ان کی گیارہ اولاد علیم السلام میں) کے بارے میں نص نہیں ہیں لیکن یہ تعداد شیعوں کے عقیدہ پر منطبق ہوتی ہے، اور اس کی کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی مگر صرف وہی جو شیعہ کہتے ہیں، (دیکھیے، خلفاء النبی، مؤلفہ حائری بحرانی)

۱۴۔ شیعوں کا جعفری فرقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ائمہ اثنا عشر (بارہ اماموں) سے مراد حضرت علی ابن ابیطالب جو رسول کے چچا زاد بھائی اور آپ کی بیٹی فاطمہ زہراء کے شوہر ہیں۔ اور حسن اور حسین میں (جو علی و فاطمہ کے بیٹے اور بط رسول اسلام میں) زین العابدین علی بن الحسین (الہجاء)۔ ان کے بعد : امام محمد بن علی (الباقر)

امام جعفر بن محمد (الصادق)

امام موسیٰ بن جعفر (الکاظم)

امام علی بن موسیٰ (الرضا)

امام محمد بن علی (الہجاء النقی)

امام علی بن محمد (المادی)

امام حسن بن علی (العسکری)

امام محمد بن الحسن (المہدی الموعود المنتظر) میں۔

یہی وہ اہل بیت میں جنہیں رسول خدا ﷺ نے بحکم خدا، امت اسلامیہ کا قائد قرار دیا، کیونکہ یہ حضرات تمام خطاؤں اور گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، یہی حضرات اپنے جد کے وسیع علم کے وارث ہیں، ان کی مودت اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ خدا نے ارشاد فرمایا : (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ) ”اے رسول! آپ کہہ دیجیے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو“۔ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَوْ نَوَّعْنَا الصَّادِقِينَ) ”اے ایماندارو!

<sup>۱</sup> سورہ شوریٰ ، آیت ۲۳

<sup>۲</sup> سورہ توبہ ، آیت ۱۱۹



تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔“ (دیکھیے: کتب حدیث و تفسیر، اور فضائل میں فریقین کے نزدیک جو صحیح اور دوسری کتا ہیں میں)

۱۵۔ شیعہ اثنا عشری عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ائمہ اطہار، وہ میں جن کے دامن پر تاریخ نہ کوئی لغزش لکھ سکی اور نہ کسی خطا کو ثابت کر پائی، نہ قول میں اور نہ عمل میں، انھوں نے اپنے وافر علوم کے ذریعہ امت مسلمہ کی خدمت کی ہے، اور اپنی عمیق معرفت، سالم اور عمیق فکر کے ذریعہ، عقیدہ و شریعت، اخلاق و آداب، تفسیر و تاریخ اور مستقبل کے لائحہ عمل کو صحیح جہت عطا کی ہے، اور ہر میدان میں اسلامی ثقافت کو محفوظ کر دیا ہے جیسے انھوں نے اپنے قول اور عمل کے ذریعہ، چند ایسے منفرد اور ممتاز، نیک سیرت اور پاک کردار مردوں اور عورتوں کی تربیت کی ہے، جن کے فضل و علم، اور حسن سیرت کے سبھی قائل ہیں۔

اور شیعہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اگرچہ (یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ) امت اسلامیہ نے ان کو سیاسی قیادت سے دور رکھا، لیکن انھوں نے پھر بھی عقائد کے اصول اور شریعت کے قواعد و احکام کی حفاظت کر کے اپنی فکری اور اجتماعی ذمہ داری بہترین طور سے ادا کی ہے۔ چنانچہ ملت مسلمہ اگر انھیں سیاسی قیادت کا موقع دیتی جسے رسول اسلام نے خدا کے حکم سے ان کو سونپا تھا، تو یقیناً اسلامی امت سعادت و عزت اور مکمل عظمت حاصل کرتی، اور یہ امت متحد رہتی، اور کسی طرح کا اختلاف، نزاع، لڑائی، جھگڑا، قتل و غارت اور ذلت و رسوائی نہ دیکھنا پڑتی۔ (اس سلسلہ میں دیکھیے: اسد حیدر صاحب کی کتاب ”الامام الصادق والمذاہب الاربعہ“)

۱۶۔ شیعہ، امام مہدی منتظر کے وجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس بارے میں رسول اسلام سے کثیر روایات نقل ہوئی ہیں کہ وہ اولاد فاطمہ سے ہوں گے، اور امام حسین کے نویں فرزند، کیونکہ امام حسین کے آٹھویں فرزند (آٹھویں پشت سے) امام حسن عسکری ہیں جن کی وفات ۳۶۰ھ میں ہوئی، اور آپ کو خدا نے صرف ایک بیٹا عنایت کیا تھا جس کا نام ”محمد“ تھا چنانچہ آپ ہی امام مہدی میں جن کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ کو مؤثق مسلمانوں نے دیکھا ہے، اور آپ کی ولادت، خصوصیات اور امامت نیز آپ کی

<sup>۱</sup> صحاح اور ان کے علاوہ فریقین کی دوسری کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ نبی اکرمؐ نے فرمایا: ”سیظہرفی آخر الزمان رجل من ذریعتی اسمہ اسمی، وکنیتہ کنیتی، یملا الارض عدلاً وقسطاً کما ملئت ظلماً وجوراً۔“

امامت پر آپ کے والد کی طرف سے نص کی خبر دی ہے، آپ اپنی ولادت کے پانچ سال بعد لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے، کیونکہ دشمنوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن خداوند متعال نے آپ کو اس لئے ذخیرہ کر رکھا ہے تاکہ آخری زمانے میں عدل و انصاف پر مبنی اسلامی حکومت قائم کریں، اور زمین کو ظلم و فساد سے پاک کر دیں بعد اس کے کہ وہ اس سے بھری ہوئی ہوگی۔

اور یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں کہ آپ کی عمر اس قدر طولانی کیسے ہو گئی؟ کیونکہ قرآن مجید اس وقت بھی حضرت عیسیٰ کے زندہ ہونے کی خبر دے رہا ہے، جبکہ ان کی ولادت کو اس وقت ۲۰۰۵ سال ہوئے چاہتے ہیں، اسی طرح حضرت نوح اپنی قوم میں ساڑھے نو سو سال زندہ رہے اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، اور حضرت خضر بھی ابھی تک موجود ہیں۔ اہل سنت کے جلیل القدر علماء کی ایک بڑی جماعت حضرت امام مہدی (عج) کے

۱۔ شیعہ ناز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اپنے مال سے زکوٰۃ اور خمس ادا کرتے ہیں، مکہ مکرمہ جا کر ایک بار بطور واجب حج بیت اللہ الاحرام کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی مستحب عمرہ و حج ادا کرتے رہتے ہیں، نیکیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور برائیوں سے روکتے ہیں، اولیائے خدا و رسول سے محبت کرتے ہیں، اور خدا و رسول کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہر اس کافر و مشرک سے جہاد کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہو، اور ہر اس حاکم سے جنگ کرتے ہیں جو قمر و غلبہ کے ذریعہ امت مسلمہ پر مسلط ہو گیا ہے، اور دین اسلام (جو کہ دین خفیف ہے) کی موافقت کرتے ہوئے تمام اقتصادی، سماجی اور گھریلو کاموں میں مصروف رہتے ہیں، جیسے تجارت، اجارہ، نکاح، طلاق، میراث، تربیت و پرورش، رضاءت اور حجاب وغیرہ۔ اور ان سب چیزوں کے احکام کو اجتہاد کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں، جنہیں متقی اور پرہیزگار علماء کتاب، صحیح سنت اور اہل بیت سے ثابت شدہ احادیث عقل اور اجماع کے ذریعہ استنباط کرتے ہیں۔

کی ولادت اور ان کے وجود کی قائل ہے، اور انہوں نے ان کے اوصاف و والدین کے نام کا ذکر کیا ہے، مثلاً: عبد المؤمن شبلنجی نے اپنی کتاب ”نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار“ میں۔

۱۸۔ شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام یومیہ فرائض کے اوقات معین ہیں، اور یومیہ نماز کے لئے پانچ وقت ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور افضل یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے مخصوص وقت میں پڑھا جائے، مگر یہ کہ نماز ظہر و عصر اور نماز مغرب و عشاء کو جمع کر کے پڑھا جاسکتا ہے، کیونکہ رسول خدا نے کسی عذر، مرض، بارش اور سفر کے بغیر ان نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں نقل ہوا ہے، اور یہ امت مسلمہ کی سہولت کیلئے کیا گیا ہے خاص طور سے ہمارے زمانہ میں ایک فطری اور عام بات ہے۔

۱۹۔ شیعہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح اذان دیتے ہیں، البتہ جب جملہ ”حی علی الفلاح“ آتا ہے تو اس کے بعد جملہ ”حی علی خیر العمل“ بھی کہتے ہیں، کیونکہ رسول خدا ﷺ کے زمانہ میں یہ جملہ اذان میں کہا جاتا تھا، لیکن حضرت عمر نے اپنے اجتہاد کی بنا پر بعد میں حذف کر دیا۔

البتہ شیعہ حضرات جو ”اشہد ان محمد رسول اللہ“ کے بعد ”اشہد ان علیاً ولی اللہ“ کہتے ہیں تو یہ ان روایات کی بنا پر ہے جو رسول خدا ﷺ اور اہل بیت سے نقل ہوئیں، جن میں یہ تصریح موجود ہے کہ محمد رسول اللہ کہیں ذکر نہیں ہوا یا باب جنت پر نہیں لکھا گیا مگر اس کے ساتھ علی ولی اللہ ضرور تھا، اور یہ جملہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ شیعہ علی کو نبی بھی نہیں سمجھتے چہ جائیکہ (نعوذ باللہ) وہ آپ کی ربوبیت اور الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہوں، لہذا توحید و رسالت کی شہادت کے بعد تیسری شہادت (علی ولی اللہ) کہنا جائز ہے، اس امید پر کہ یہ بھی مطلوب پروردگار ہو، البتہ اس کو جزا اور وجوب کے قصد سے انجام نہ دیا جائے، یہی اکثر شیعہ علماء کا قنوی ہے۔

۲۰۔ شیعہ زمین اور مٹی یا لنگر اور پتھر یا زمین کے اجزاء اور نباتات وغیرہ پر سجدہ کرتے ہیں، درمی، قالین یا چادر، کپڑے اور کھائی جانے والی چیزوں اور زیورات پر سجدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس سلسلہ میں کثیر تعداد میں شیعہ اور سنی کتابوں میں روایتیں بیان ہوئی ہیں، البتہ اس مٹی کو پاک ہونا چاہیے، اسی طہارت کی تاکید کی بنا پر شیعہ لوگ اپنے ساتھ مٹی کا پاک ڈھیلا (جیسے سجدہ گاہ وغیرہ) رکھتے ہیں، اسی

طرح شیعہ نماز میں اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نہیں رکھتے، کیونکہ رسول اسلامؐ نے نماز میں یہ کام انجام نہیں دیا، اور یہ بات قطعی نص صریح سے ثابت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ سنی مالکی حضرات بھی یہ فعل انجام نہیں دیتے ہیں۔

۲۱۔ شیعہ فرقہ وضو میں دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سے انگلیوں کے سرے تک اوپر کی جانب سے دھوتے ہیں، اور اس کے برخلاف نہیں کرتے، کیونکہ یہ طریقہ انھوں نے اپنے ائمہ اہلیت سے اخذ کیا ہے، اور ائمہ نے اس کو رسول خدا سے اخذ کیا ہے، اور اہل بیت اپنے جد کی باتوں کو دوسروں سے بہتر طریقہ سے جانتے ہیں کہ ان کے جد یہ کام کیسے کیا کرتے تھے، جیسا کہ رسول خدا ﷺ بھی اسی طرح انجام دیتے تھے۔ اسی طرح یہ لوگ اپنے پیروں اور سروں کو دھونے کے بجائے ان کا مسح کرتے ہیں، جس کا سبب ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔

۲۲۔ شیعہ زنا، لواط، سود خوری، نفس محترمہ کا قتل، شراب نوشی، جوا، بلوا و بغاوت، مکروہ فیہ، دھوکا دھڑی، ذخیرہ اندوزی بناپ تول میں کمی کرنا، غصب، چوری، خیانت، کینہ و کھوٹ، رقص و غنا، اتہام بہتان، تہمت، چغل خوری، فساد پھیلانا، مومن کو اذیت دینا، غیبت کرنا، گالی گلوچ، کذب و بہتان اور ان کے علاوہ تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو حرام جانتے ہیں، اور ہمیشہ ان گناہوں سے دور رہتے ہیں اور حتی الامکان ان سے اجتناب کی کوشش کرتے ہیں۔

۲۳۔ شیعہ نبی اکرم ﷺ، اہل بیت اور آپ کی پاک ذریت جو جنت البقیع اور مدینہ منورہ میں مدفون ہیں ان کی قبروں کا احترام کرتے ہیں، جن میں امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام محمد باقر، اور امام جعفر صادق علیہم السلام ہیں۔ نجف اشرف میں امام علی کا مرقد ہے، اور کربلا میں امام حسین اور آپ کے بھائی آپ کی اولاد اور آپ کے چچا کی اولاد اور آپ کے اصحاب و انصار (جو آپ کے ساتھ روز عاشورہ شہید ہوئے تھے) کی قبریں ہیں۔ اور سامرہ میں امام ہادی (علی نقی)، امام حسن عسکری کے روضے ہیں، اور کاظمین میں امام جواد اور امام کاظم کے مراقد جو سب کے سب عراق میں ہیں، اور ایران کے شہر مشہد میں امام رضا کا مرقد

۲۴۔ شیخ رسول اکرمؐ اور ان کی آل پاک سے شفاعت طلب کرتے ہیں، اور ان کو خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت، طلب حاجات اور مریضوں کی شفا یابی کیلئے، وسیلہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے اس بات کو نہ صرف یہ کہ بہتر قرار دیا ہے، بلکہ اس نے اس کی طرف واضح انداز میں دعوت بھی دی ہے : (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا) ۲ اور کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تو آپ کے پاس آتے اور خود بھی اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتا تو یہ خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے ۳۔ اور فرمایا : (وَلَوْ يَغْفِيكَ رَبُّكَ فَفَرَضْهُ) ۴ اور غفیرِ تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ ۵۔ اس آیت سے مراد مقام شفاعت ہے۔ یہ بات کیسے معقول ہے کہ ایک جانب رسول اکرمؐ کو خدا گناہگاروں کی شفاعت کیلئے مقام شفاعت اور صاحبان حاجات کیلئے مقام وسیلہ عنایت فرما دے اور دوسری طرف لوگوں کو منع فرمائے کہ ان سے شفاعت طلب نہ کریں؟ یا نبی اکرمؐ پر حرام قرار دیدے کہ آپ اس مقام سے کوئی استفادہ نہ کریں؟ اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نبی اور ائمہ ۲۲۲ مرتبے میں لہذا ان سے دعا طلب کرنا مفید نہیں؟ کیونکہ انبیاء اور خاصان خدا زندہ رہتے ہیں خاص طور سے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ جن کے بارے میں خدا نے یہ ارشاد فرمایا : (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ وَسْطًا لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى النَّاسِ مَدْعَاءُ غَيْرُكَ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) ۶ اور تحویل قبلہ

٤ سورة بقره ، آیت ۱۴۳)

کی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت قرار دیا ہے، تاکہ تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو اور پیغمبر تمہارے اعمال کے گواہ رہیں۔“  
اس آیت میں ”شہیداً“ کے معنی شاہد اور گواہ ہیں۔

۲۵۔ جعفری شیعہ نبی اور ائمہ اہلبیت کی ولادت پر محفل اور خوشی کے پروگرام کرتے ہیں، اور ان کی وفات پر ماتم و عزا کرتے ہیں، اور ان پروگراموں میں ان کے فضائل و مناقب اور ان کی ہدایت بخش سیرت و کردار کا ذکر کرتے ہیں۔

۲۶۔ جعفری شیعہ ایسی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں جو احادیث رسول اکرم ﷺ اور اہل بیت عصمت و طہارت کی روایات پر مشتمل ہیں، جیسے ”الکافی“، مؤلفہ ثقت الاسلام شیخ کلینی، ”من لا یحضرہ الفقیہ“، مؤلفہ شیخ صدوق، ”الاستبصار“، اور ”تہذیب“، مؤلفہ شیخ طوسی، ان کے یہاں یہ احادیث کی اہم کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں اگرچہ صحیح احادیث پر مشتمل ہیں، لیکن نہ ان کے مؤلفین و مصنفین اور نہ ہی شیعہ فرقہ ان تمام احادیث کو صحیح قرار دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شیعہ فقہاء ان کی تمام احادیث کو صحیح نہیں جانتے، بلکہ وہ انہی احادیث کو قبول کرتے ہیں جو ان کے نزدیک شرائط صحت پر کھری اترتی ہوں، جو علم درایہ، رجال اور قوانین حدیث پر پوری نہیں اترتی ہیں ان کو ترک کر دیتے ہیں۔

۲۷۔ اسی طریقہ سے شیعہ (عقائد، فقہ اور دعا و اخلاق کے سلسلہ میں) دوسری کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، جن میں ائمہ سے مختلف قسم کی حدیثیں نقل کی گئی ہیں، جیسے نج البلاغہ، جسے سید رضی نے تالیف کی ہے، اور اس میں امام علیؑ کے خطبے، خطوط، اور حکمت آمیز مختصر کلمات موجود ہیں، اور اسی طرح امام زین العابدین علی بن الحسین کا ”رسالہ حقوق“، اور ”صحیفہ سجادیہ“۔  
۲۸۔ شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو دور قدیم و جدید میں جن مشکلات اور جانی یا مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ صرف ان دو چیزوں کا نتیجہ ہیں: ۱۔ اہل بیت ۲۲ کو بھلا دینا جبکہ وہ درحقیقت قیادت کی لیاقت اور صلاحیت رکھتے تھے، اسی طرح ان کے ارشادات و تعلیمات کو بھلا دینا، بالخصوص قرآن مجید کی تفسیر ان سے ہٹ کر بیان کرنا۔

۲۔ اسلامی فرقوں اور مذاہب کے درمیان اختلاف، تفرقہ، اور لڑائی، جھگڑے۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ فرقہ ہمیشہ ملت اسلامیہ کی صفوں کے درمیان وحدت قائم کرنے کی دعوت دیتا رہا ہے، اور تمام لوگوں کی طرف پیار و دوستی اور بھائی چارگی کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔

۲۹۔ جعفری شیعہ کے بزرگ علماء تمام اسلامی مختلف مذاہب کے علماء کے درمیان مختلف موضوعات میں گفتگو اور تبادلہ خیال کی ضرورت پر زور دیتے ہیں، اور جعفری شیعہ کسی بھی مسلمان کو کافر نہیں کہتا، کیونکہ شیعوں کا فقہی مسئلہ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کافر وہ ہوتا ہے جس کے کفر پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہو، شیعہ (بعض اوقات نہ ہمیشہ) تقیہ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مذاہب اور عقیدہ کو (کسی سبب کی بنا پر) پوشیدہ کیا جائے، اور یہ تقیہ قرآنی آیات کے مطابق ایک جائز امر ہے، اور اس پر تمام اسلامی مذاہب عمل کرتے ہیں البتہ جب کسی دشمن کے درمیان پھنس جائے (اور اظہار عقیدہ کی صورت میں یقینی طور پر خطرہ موجود ہو) تو تقیہ کیا جاسکتا ہے، اور یہ دو سبب کی بنا پر ہوتا ہے: ۱۔ اپنی جان کی حفاظت کی خاطر تاکہ اس کا خون رائگاں نہ بہ جائے۔

۲۔ وحدت مسلمین باقی رہے، اور ان کے درمیان اختلاف و افتراق پیدا نہ ہو۔

۳۰۔ شیعہ فرقہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مسلمانوں کا حق یہ ہے کہ ان اسلامی حکومتوں سے فائدہ اٹھائیں، جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتی ہیں، اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور دوسری حکومتوں سے مناسب اور مسالمت انداز میں رابطہ قائم کرتی ہیں، اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں، نیز مسلمانوں کے ثقافتی، اقتصادی اور سیاسی استقلال کیلئے کوشاں رہتی ہیں، تاکہ مسلمان با عزت رہ سکیں، جیسا کہ ان کے لئے چاہتا ہے جیسا کہ فرمایا: (وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) ”اور عزت صرف خدا اور اس کے رسول اور مومنین کیلئے ہے“۔

والحمد لله رب العالمین